



### کووڈ-19 کے ردعمل میں، برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں مورخہ 4 مئی سے مؤثر ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (29 اپریل 2020) – اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، کہ برامپٹن ٹرانزٹ اپنی کمیونٹی کو کووڈ-19 کی ہنگامی صورتحال کے دوران کے دوران بحفاظت خدمات فراہم کر رہا ہے، بس سروس میں بروز پیر، 4 مئی سے تاحکم ثانی درج ذیل تبدیلیاں لائی جائیں گی۔

برامپٹن میں نگہداشت صحت اور ملازمت کے مقامات تک رسائی میں مدد دینے اور برامپٹن ٹرانزٹ کی دیگر سروسز تک رسائی اور رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل روٹس پر اضافی سروس اور زیادہ شرح دوبارہ متعارف کروائی جائے گی۔ جبکہ اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ ان سروسز کو بہتر طور پر بحال کرنے کی بہترین کوششیں کی جائیں گی۔

- **511/511A زوم سٹیلیز** – بدھ کو صبح (صبح 6 تا 9) اور شام (دن 3 تا شام 7) کی رش کے اوقات کی شرح کو ہر 20 منٹ سے بڑھا کر ہر 10 منٹ کر دیا گیا ہے
- **7/7A کینیڈی** – بدھ کو صبح (صبح 6 تا 9) اور شام (دن 3 تا شام 7) کی رش کے اوقات کی شرح کو بڑھا کر ہر 10 منٹ کر دیا گیا ہے
- **8 سینٹر** – ہفتے کے روز کی سروس شامل کی گئی
- **14/14A ٹوربریم** – بدھ کو صبح (صبح 6 تا 9) اور شام (دن 3 تا شام 7) کی رش کے اوقات کی شرح کو بڑھا کر ہر 10 منٹ کر دیا گیا ہے
- **18 ڈکسی** – دوران ہفتہ صبح (صبح 6 تا 9) اور شام (دن 3 تا شام 7) کی رش کے اوقات کی شرح کو ہر 15 منٹ سے بڑھا کر ہر سات منٹ کر دیا گیا ہے
- **20/20A ایسٹ انڈسٹریل** – 20A پیر تا جمعہ سروس میں واپس آ گیا ہے
- **29 ولیمز پارک وے** – پیر تا ہفتہ مڈ ڈے (صبح 9 تا دن 3) کی سروس شامل کر دی گئی ہے، اتوار کے روز کی سروس نہیں
- **31 میک وین** – پیر تا ہفتہ مڈ ڈے (صبح 9 تا دن 3) کی سروس شامل کر دی گئی ہے، اتوار کے روز کی سروس نہیں
- **51 بینر فورڈ** – پیر تا ہفتہ مڈ ڈے (صبح 9 تا دن 3) کی سروس شامل کر دی گئی ہے، اتوار کے روز کی سروس نہیں
- **52 میک مچی** – ہفتے اور اتوار کے روز کی سروس شامل کر دی گئی ہے
- **60 مسی ساگا** – پیر تا جمعہ مڈ ڈے (صبح 9 تا دن 3) کی سروس شامل کر دی گئی ہے

کووڈ-19 کے دوران سینئر ID اور ویٹیرن کارڈز جاری نہیں کیے جا رہے۔ گاہک تاحکم ثانی اپنے منسوخ شدہ کارڈز استعمال کر سکتے ہیں۔

یاددہانی کے طور پر، ٹرمینلز میں کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند ہیں۔ 4 مئی سے شروع کرتے ہوئے، برامیلا، برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار کو صبح 6 تا رات 9 پر بدل دیا جائے گا۔

موجودہ طور پر چلنے والے روٹس اور ان کے شیڈول کی فہرست دیکھنے کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔

### کرونا وائرس (کووڈ-19) کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔



# BRAMPTON

## Service and Information Update

خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) پر جائیں یا Twitter پر [bramptontransit@](mailto:bramptontransit@) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)